

برائے فوری اجراء

## برامپٹن کے لیے بہت جلد ایک بہتر گو سروس شروع کی جا رہی ہے

برامپٹن، آن (15 اگست 2019) - آج صوبہ اونٹاریو نے تمام بڑی لائنز پر گو سروس میں توسیع کا اعلان کیا ہے جن میں ایسی خصوصی بہتریاں شامل کی گئی ہیں جن سے باقاعدہ مسافروں اور سیاحوں کو بھی فوائد حاصل ہوں گے۔

اضافی سروس میں کچنر، لیک شور ایسٹ اور لیک شور ویسٹ گو لائنز کے کل 84 نئے ہفتہ وار ٹریس شامل ہیں جبکہ کچنر اور لیک شور ویسٹ لائنز میں توسیع کر کے 65 نئے ٹریس کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔

برامپٹن کے لیے جھلیکوں میں شامل ہیں:

- نئی سروس کے آغاز سے برامپٹن کو کچنر گو لائن پر ہفتہ وار 50 ٹریس ٹریس میسر آئیں گے
- یونین اسٹیشن اور کچنر گو کے درمیان رات کو تاخیر سے چلنے والی نئی ہفتہ وار سروس کا آغاز
- یونین اسٹیشن اور برامیلا گو کے درمیان ہفتہ کے دنوں کے دوران شام کی ہر گھنٹے چلنے والی سروس
- یونین اسٹیشن اور برامیلا گو کے درمیان ویک ڈے کا ایک ایکسپریس ٹرپ، اس کے بعد ویسٹ سے کچنر گو تک کے تمام اسٹاپس، جن کی وجہ سے برامپٹن کے مسافروں کو کم از کم 10 منٹ کی بچت ہو گی

برامپٹن کے لیے سروس میں کی جانے والی نئی بہتریوں کے آغاز کی توقع مورخہ 3 ستمبر سے کی جا رہی ہے۔ شیڈول کے بارے میں مزید تفصیلات [گو ٹرانزٹ کی ویب سائٹ](#) سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

گو سروس میں کی جانے والی توسیع برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے [سروس میں بہتری کے اعلان](#) کے بعد زیادہ تاخیر سے نہیں کی گئی۔

### اقتباسات

"برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے یہ ایک خیر مقدمی اعلان اور بہت بڑی خبر ہے۔ ہمارا ہدف دو طرفہ ہے، یعنی برامپٹن کے لیے پورا دن گو سروس کی دستیابی، مگر ہم اس کو اپنے ہدف کی جانب صرف ایک پہلے قدم کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم عوامی سفر کو آسان تر اور زیادہ آرام دہ بنانا چاہتے ہیں اور برامپٹن میں کاروباری سرمایہ کاری کو زیادہ پُرکشش بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور انوویشن کوریڈور کے ساتھ ہم معاشی بڑھوتری کو معاونت فراہم کر رہے ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"ہم ستمبر کے مہینے میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں جو اضافہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے آج کا اعلان برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ایک انتہائی پرجوش خبر ہے۔ ہم برامپٹن میں ہر قسم کی عوامی نقل و حمل کے ذرائع میں بڑھوتری دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں اور ہم برامپٹن میں ایک مضبوط اور قابل دوام ٹرانزٹ سسٹم بنانے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے اپنے شراکت داروں اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے ہیں۔"

- ایلکس ملوچیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)